



Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) حضرت شاہ عبد القادر اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة الشعراء بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طسّم

طاسین میم۔

.1

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

یہ آیتیں ہیں کھول سنائی کتاب کی (جو اپنا مدعا صاف بیان کرتی ہیں)۔

.2

لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس پر کہ وہ یقین نہیں کرتے۔

.3

إِنْ نَشَأْ نُزِيلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَفُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

اگر ہم چاہیں اتار دیں ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں انکی گردنیں اسکے آگے نیچی (جھکی ہوئی)۔

.4

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ

اور نہیں پہنچتی ان پاس کوئی نصیحت رحمن سے نئی، جس سے منہ نہیں موڑتے۔

.5

.6

فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبُؤُهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَمْتِرُونَ

سو یہ جھٹلا چکے، اب پہنچے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر ٹھٹھے (مذاق) کرتے تھے۔

.7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

کیا نہیں دیکھتے زمین کو، کتنی اگائی ہم نے اس میں ہر بھانت بھانت (طرح طرح کی) چیزیں خاصی؟

.8

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

اس میں البتہ نشان ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

.9

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

.10

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّبِعْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ کو، کہ جاؤ قوم گنہگار پاس۔

.11

قَوْمَ فِرْعَوْنَ

قوم فرعون پاس۔

الَّا يَتَّقُونَ

کیا اس کو ڈر نہیں۔

.12

قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ

بولا اے رب! میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں۔

.13

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى الْهَرُونَ

اور رُک جاتا ہے میرا جی، اور نہیں چلتی میری زبان، سو پیغام دے ہارون کو۔

.14

وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ

اور ان کو ہے مجھ پر ایک گناہ کا دعویٰ سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں۔

.15

قَالَ كَلَّا

فرمایا کوئی (ہرگز ایسا) نہیں!

فَأَذْهَبَ بِنَايِتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ

تم دونوں جاؤ لے کر ہماری نشانیاں، ہم ساتھ تمہارے سنتے ہیں۔

.16

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سو جاؤ فرعون پاس اور کہو، ہم پیغام لائے ہیں جہان کے صاحب کا۔

.17

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

کہ چلائے (روانہ کرے) ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔

.18

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

بولا، ہم نے پالا نہیں تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا اور رہا تو ہم میں اپنی عمر میں سے کئی برس۔

.19

وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

اور کر گیا تو اپنا وہ کام جو کر گیا، اور تو ہے ناشکر۔

.20

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الصَّالِّينَ

کہا، کیا تو ہے میں نے وہ اور میں تھا چوکنے والا۔

.21

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ

پھر بھاگا میں تم سے، جب تمہارا ڈر دیکھا،

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم، اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام پہنچانے والا۔

.22

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ

اور وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھے (اس لئے کہ) غلام کر لئے تونے بنی اسرائیل۔

.23

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

بولو فرعون، کیا معنی جہان کا صاحب؟

.24

قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

کہا، صاحب آسمان و زمین کا، اور جو ان کے بیچ ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

اگر تم یقین کرو۔

.25

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ

بولو اپنے (ارد) گرد والوں سے، (کیا) تم نہیں سنتے ہو (جو یہ کہہ رہا ہے)؟

.26

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ

کہا، صاحب تمہارا، اور صاحب تمہارے اگلے باپ دادوں کا۔

.27

قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

(فرعون) بولا (حاضرین سے) تمہارا پیغام والا، جو تمہاری طرف بھیجا ہے، سوباؤلا (دیوانہ) ہے۔

.28

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا

کہا (موسیٰ نے)، رب مشرق اور مغرب کا، اور جو ان کے بیچ ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

اگر تم بوجھ (سمجھ) رکھتے ہو۔

.29

قَالَ لَئِن آتَّخَذَتِ الْهَآغَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

(فرعون) بولا، اگر تُو نے ٹھہرایا کوئی اور حاکم میرے سوا، تو مقرر (ضرور) ڈالوں گا تجھ کو قید میں۔

.30

قَالَ أَوْلَوْ جُنَّتْكَ بِشَىءٍ مُّبِينٍ

کہا (موسیٰ نے)، اور جو لایا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی (واضح)؟

.31

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

(فرعون) بولا، تو وہ چیز لا اگر تو سچ کہتا ہے۔

.32

فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

پھر ڈال دی (موسیٰ نے) اپنی لاٹھی، تو اسی وقت وہ ناگ ہو گئی صریح (سچ مچ)۔

وَنَزَعُ يَدَ كَافِرًا إِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّظِيرِينَ

اور اندر سے نکالا اپنا ہاتھ، تو اسی وقت چٹا (سفید) ہے دیکھنے والوں کے سامنے۔

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا السَّحِرُ عَلِيمٌ

(فرعون) بولا، اپنے (ارد) گرد کے سرداروں سے، یہ کوئی جادوگر ہے پڑھا (ماہر)۔

يُرِيدُ أَنْ يُجْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ

چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو تمہارے دیس سے اپنے جادو کے زور سے۔

فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

سواب کیا حکم (مشورہ) دیتے ہو؟

قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

بولے ڈھیل دے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج شہروں میں نقیب۔

يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ

لے آئیں تیرے پاس جو بڑا جادوگر ہو پڑھا (ماہر)۔

فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لَمِيقَتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ

پھر اکٹھے کئے جادوگر، وعدہ پر ایک مقرر دن کے۔

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ

اور کہہ دیا لوگوں کو، تم بھی اکٹھے ہوتے ہو۔

.40

لَعَلَّنَا نَتَّبِعَ السَّحْرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ

شاید ہم راہ پکڑیں جادو گروں کی اگر ہو جائیں وہی زبر (غالب)۔

.41

فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرَةُ قَالُوا الْفِرْعَوْنُ أَبْنٌ لَنَا الْأَجْرُ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ

پھر جب آئے جادو گر، کہنے لگے فرعون سے بھلا کچھ ہمارا نیک (اجر) بھی ہے اگر ہو جائیں ہم زبر (غالب)۔

.42

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

(فرعون) بولا البتہ! تم اس وقت نزدیک والوں (مقربین) میں ہو گے۔

.43

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ

کہا ان کو موسیٰ نے ڈالو جو تم ڈالتے ہو۔

.44

فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا أَبِعِزَّةٍ فِرْعَوْنُ إِنَّنَا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ

پھر ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں، اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی زبر (غالب) رہے۔

.45

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

پھر ڈالا موسیٰ نے اپنا عصا، پھر تبھی وہ نکلنے لگا جو سانگ (سوانگ) انہوں نے بنایا تھا۔

.46

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ فَسَجَدُوا

پھر اوندھے گرے جادو گر سجدہ میں۔

.47

قَالُوا أءِامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

بولے، ہم نے مانا جہان کے رب کو۔

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ

جورب موسیٰ اور ہارون کا۔

قَالَ ءَامَنْتُمْ لِي قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ^ط

بولاتم نے اس کو مان لیا، ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو۔

إِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ^ج

مقرر (ضرور) وہ تمہارا بڑا ہے، جس نے تم کو سکھایا جادو۔ سواب معلوم کرو گے۔

لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خَلْفٍ وَلَا أَصْلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

البتہ کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور دوسرے پاؤں، اور سولی چڑھاؤں تم سب کو۔

قَالُوا لَا صَبِيرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ^ط

بولے کچھ ڈر نہیں، ہم کو اپنے رب کی طرف پھر (پلٹ) جانا ہے۔

إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

ہم غرض رکھتے ہیں کہ بخشے ہم کو رب ہمارا تقصیریں (خطائیں) ہماری،

اس واسطے کہ ہم ہوئے پہلے قبول کرنے والے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكُمْ مُّتَّبِعُونَ

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو، کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارے پیچھے لگیں گے۔

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقیب۔

.53

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ

(اور کہلا بھیجا) یہ لوگ جو ہیں سوا ایک جماعت ہیں تھوڑی سی۔

.54

وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ

اور (واقع یہ ہے کہ) وہ مقرر ہم سے جی جلے ہیں۔

.55

وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ

اور ہم سارے خطرہ رکھتے ہیں۔

.56

فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ

پھر نکالا ہم نے ان کو باغ چھوڑ کر اور چشمے۔

.57

وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

اور خزانے اور گھر خاصے۔

.58

كَذَٰلِكَ وَأُورِثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

اسی طرح! اور ہاتھ لگائیں یہ چیزیں بنی اسرائیل کو۔

.59

فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ

پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے۔

.60

.61

فَلَمَّا تَرَىٰءَ الْجُمُعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَّ رَاكُونَ

پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں، کہنے لگے موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے۔

.62

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

کہا کوئی (ہرگز) نہیں! میرے ساتھ ہے میرا رب، مجھ کو راہ بتا دے گا۔

.63

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو، کہ مار اپنے عصا سے دریا کو۔

فَأَنفَلَقَ فَمَا كَانَ كَلُّ فِرْقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ

پھر پھٹ گیا، تو ہو گئی ہر پھانک (ٹکڑا) جیسے بڑا پہاڑ۔

.64

وَأَرْزَلْنَا ثَمَّ الْأَخْرِيْنَ

اور پاس پہنچایا ہم نے اس جگہ دوسروں کو۔

.65

وَأُنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ

اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو، اور جو لوگ تھے اسکے ساتھ سارے۔

.66

ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْأَخْرِيْنَ

پھر ڈبو دیا ان دوسروں کو۔

.67

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

اس چیز میں ایک نشانی ہے۔ اور نہیں وہ بہت لوگ ماننے والے۔

.68

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

.69

وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ

اور سنان کو خبر ابراہیم کی۔

.70

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ

جب کہا اپنے باپ کو اور اسکی قوم کو، تم کیا پوجتے ہو؟

.71

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُ لَهَا عَافِيَانِ

وہ بولے، ہم پوجتے ہیں مورتوں کو، پھر سارے دن اس پاس لگے بیٹھے رہیں۔

.72

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ

کہا، کچھ سنتے ہیں تمہارا جب پکارتے ہو۔

.73

أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ

یا بھلا کرتے ہیں تمہارا یا برا؟

.74

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

بولے نہیں! پر ہم نے پائے اپنے باپ دادے یہی کرتے۔

.75

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

کہا، بھلا دیکھتے ہو جن کو پوجتے رہے ہو۔

أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَامُونَ

.76

تم اور تمہارے باپ دادے اگلے۔

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

.77

سو وہ میرے غنیم (دشمن) ہیں، مگر جہان کا صاحب۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

.78

جس نے مجھ کو بنایا (پیدا کیا)، سو وہی مجھ کو سوجھ (رہنمائی) دیتا ہے۔

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

.79

اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

.80

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی چنگا (صحت یاب) کرتا ہے۔

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

.81

اور وہ جو مجھ کو مارے گا، پھر جلاوے (زندہ کرے) گا۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

.82

اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر (خطائیں) دن انصاف کے۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

.83

اے رب! دے مجھ کو حکم، اور ملا مجھ کو نیکوں میں۔

وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں (بعد والوں) میں۔

وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے۔

وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ

اور معاف کر میرے باپ کو، وہ تھراہ بھولوں میں۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

اور رسوانہ کر مجھ کو جس دن جی کر اٹھیں۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

جس دن نہ کام آئے کوئی مال نہ بیٹے۔

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

مگر جو کوئی آیا اللہ پاس لے کر دل چنگا (قلب سلیم)۔

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

اور پاس لائے بہشت واسطے ڈروالوں کے۔

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

اور نکالی دوزخ سامنے بے راہوں کے۔

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

اور کہتے ان کو کہاں ہیں جن کو پوجتے تھے۔

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ

اللہ کے سوا۔ کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے؟

فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوِنَ

پھر اوندھے ڈالے اس میں وہ اور سب بے راہ۔

وَجُنُودِ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ

اور لشکر ابلیس کے سارے۔

قَالُوا أَوْ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ

کہیں گے جب وہ وہاں جھگڑنے لگیں۔

تَأَلَّاهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

قسم اللہ کی! ہم تھے صریح غلطی میں۔

إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

جب تم کو برابر کرتے تھے جہان کے صاحب کے۔

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ

اور ہم کو راہ سے بھلایا سوا ان گنہگاروں نے۔

.100

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ

پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا۔

.101

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا۔

.102

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

سو کسی طرح ہم کو پھر (دوبارہ) جانا ہو، تو ہم ہوں ایمان والوں میں۔

.103

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

.104

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

.105

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

جھٹلایا نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔

.106

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟

.107

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

میں تمہارے واسطے پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سوڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر)۔ میرا نیک (اجر) ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سوڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنْكَ وَأَتَّبَعَكَ الْأَلْمُذُنُونَ

بولے کیا ہم تجھ کو مانیں؟ اور تیرے ساتھ ہو رہے ہیں کینے۔

قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

کہا مجھ کو کیا جاننا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔

إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ

ان کا حساب پوچھنا میرے رب ہی کا کام ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ

اور میں ہانکنے (دھکانے) والا نہیں ایمان لانے والوں کو۔

إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

میں تو یہی ڈر سنا دینے والا ہوں کھول کر (واضح طور پر)۔

قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَه يَنْوُحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

بولے، اگر تونہ چھوڑے گا، اے نوح! تو سنگسار ہوگا۔

.116

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ

کہا، اے رب! میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا۔

.117

فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

سو فیصلہ کر میرے ان کے بیچ، کسی طرح کا فیصلہ۔

.118

وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور بچالے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے۔

.119

فَأَنْجِيئَهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ

پھر بچا دیا ہم نے اسکو اور جو اسکے ساتھ تھے اس لدی کشتی میں۔

.120

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ

پھر ڈبو دیا پیچھے ان رہے ہوؤں کو۔

.121

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

البتہ اس بات میں نشانی ہے۔

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

.122

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

.123

كَذَّبَتْ عَادُ الْأُمْرُسَلِينَ

جھٹلایا عادی نے پیغام لانے والوں کو۔

.124

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ

جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم کو ڈر نہیں؟

.125

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

میں تمہارے پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

.126

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

.127

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر)۔ میرا نیک (اجر) ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

.128

أَتَبْنُونَ بُكْلًا رِيعًا آيَةً تَعْبَثُونَ

کیا بناتے ہو ہر ٹیلے پر ایک نشان کھیلنے کو؟

.129

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ

اور بناتے ہو کار یگریاں (بڑی بڑی عمارتیں)، شاید تم ہمیشہ رہو گے۔

.130

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ

اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پنچہ مارتے ہو ظلم سے۔

.131

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہا مانو۔

.132

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ

اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچایا (عطا کیا) ہے جو کچھ جانتے ہو۔

.133

أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنِينَ

پہنچائے (عطا فرمائے) تم کو چوپائے اور بیٹے۔

.134

وَجَدَّتْ وَعُيُونٍ

اور باغ اور چشمے۔

.135

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔

.136

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ

بولے، ہم کو برابر ہے تو نصیحت کرے یا نہ بنے نصیحت کرنے والا۔

.137

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ

اور کچھ نہیں یہ، عادت ہے اگلے لوگوں کی۔

وَمَا نَحْنُ بِمُعَدِّبِينَ

اور ہم کو آفت نہیں آنے والی۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْتَهُمْ^ط

پھر اس کو جھٹلانے لگے تو ہم نے ان کو کھپا (ہلاک کر) دیا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

اس بات میں البتہ نشان ہے، اور وہ لوگ بہت نہیں ماننے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

كَذَّابَتْ شِمُودُ الْأُمْرُسَلِينَ

جھٹلایا شمود نے پیغام لانے والوں کو۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

جب کہا ان کو انکے بھائی صالح نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

میں تم پاس پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

.145

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ نیگ (اجر)۔ میرا نیگ (اجر) ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

أَتْتَرُ كُونَ فِي مَا هَهُنَا ءَامِنِينَ

.146

کیا چھوڑ دیں گے تم کو یہاں کی چیزوں میں نڈر؟

فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ

.147

باغوں اور چشموں میں۔

وَزُرْمُوعٍ وَنَخْلٍ طَلَعَهَا هَضِيمٌ

.148

اور کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کا گابھا (گودا) ملائم۔

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ

.149

اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر تکلف سے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ

.150

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

.151

اور نہ مانو حکم بے باک لوگوں کا۔

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

.152

جو بگاڑ کرتے ہیں ملک میں اور سنوار نہیں کرتے۔

.153

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

بولے، تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔

.154

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

تو یہی ایک آدمی ہے جیسے ہم۔ سولے آپکھ نشانی، اگر تو سچا ہے۔

.155

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمَ مَعْلُومٍ

کہا، یہ اونٹنی ہے! اس کو پانی پینے کی ایک باری، اور تم کو باری ایک دن کی مقرر۔

.156

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ

اور نہ چھیڑو اس کو بُری طرح، پھر پکڑے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔

.157

فَعَقَرُوهَا فَاصْبِرُوا أَلْدَمِينِ

پھر کاٹ (مار) ڈالی وہ اونٹنی، پھر کل کورہ گئے پچھتاتے۔

.158

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ^ط

پھر پکڑا ان کو عذاب نے،

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً^ط وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ

البتہ اس بات میں نشانی ہے، اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

.159

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم کرنے والا۔

.160

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

جھٹلایا لوط کی قوم نے پیغام لانے والوں کو۔

.161

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ

اور جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟

.162

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

میں تم کو پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

.163

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو۔

.164

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر)، میرا نیک (اجر) ہے اس جہان کے صاحب پر۔

.165

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

کیا دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر؟

.166

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ

اور چھوڑتے ہو جو تم کو بنادیں تمہارے رب نے تمہاری جو روئیں (بیویاں)؟

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے۔

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَه يَلُوطٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

بولے، اگر نہ چھوڑے گا تو، اے لوط! تو تو نکالا جائے گا۔

.167

قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ

کہا، میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں۔

.168

رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ

اے رب! خلاص کر (نجات دے) مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ کرتے ہیں۔

.169

فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ

پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سارے۔

.170

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ

مگر ایک بڑھیا رہی (بچھے) رہنے والوں میں۔

.171

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان دوسروں کو۔

.172

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنذَرِينَ

اور برسایا ان پر ایک برس، سو کیا بڑا برس اور سہاؤ تھا ان ڈرائے ہوؤں کا۔

.173

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ اور بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

.174

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

كَذَّبَ أَصْحَابُ الْمِرْثَلَةِ الْمُرْسَلِينَ

جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام لانے والوں کو۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ

جب کہا ان کو شعیب نے، کیا تم کو ڈر نہیں؟

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

میں تم کو پیغام لانے والا ہوں معتبر۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

سو ڈرو اللہ سے، اور میرا کہا مانو۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اور نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ نیک (اجر)۔ میرا نیک (اجر) ہے اسی جہان کے صاحب پر۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

پورا بھر دو ماپ اور نہ ہو نقصان دینے والے۔

وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْمُنَا

اور تولو سیدھی ترازو۔

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

اور مت گھٹادو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور مت دوڑو ملک میں خرابی ڈالتے۔

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَأَلْبَسَكُمْ أَجْلِيلَةَ الْأُولِينَ

اور ڈرو اُس سے، جس نے بنایا (پیدا کیا) تم کو اور اگلی خلقت (پہلی مخلوق) کو۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

بولے، تجھ کو کسی نے جادو کیا ہے۔

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

اور تو یہی ایک آدمی ہے جیسے ہم، اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے۔

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

سو دے مار ہم پر کوئی پٹرا (ٹکڑا) آسمان کا، اگر تو سچا ہے۔

قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

کہا، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ

پھر اس کو جھٹلایا، پھر پکڑا ان کو آفت نے ساہبان والے دن کی،

إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

بیشک وہ تھا عذاب بڑے دن کا۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

.190

البتہ اس بات میں نشانی ہے۔ اور وہ بہت لوگ نہیں ماننے والے۔

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

.191

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

.192

اور یہ قرآن ہے اتارا جہان کے صاحب کا۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

.193

لے اُترا ہے اس کو فرشتہ معتبر۔

عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

.194

تیرے دل پر، کہ تو ہو ڈر سنانے والا۔

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

.195

کھلی عربی زبان سے۔

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

.196

اور یہ لکھا ہے پہلوں کی کتابوں میں۔

أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ

.197

کیا ان کو نشانی نہیں ہو چکی؟

اس کی خبر رکھتے ہیں پڑھے لوگ بنی اسرائیل کے۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ

اور اگر اتارتے ہم یہ کتاب کسی اوپری زبان والے (عجمی) پر۔

فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ ۚ مُؤْمِنِينَ

اور وہ اس کو پڑھتا، تو بھی اس کو یقین نہ لاتے۔

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ

اسی طرح پیٹھا (ڈالا) ہم نے اس کو گنہگاروں کے دل میں۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

وہ نہ مانیں گے اس کو، جب تک نہ دیکھیں گے دکھ کی مار۔

فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

پھر آئے ان پر اچانک اور ان کو خبر نہ ہو۔

فَيَقُولُوا أَهْلٌ نَحْنُ مُنْظَرُونَ

پھر کہنے لگیں کچھ بھی ہم کو فرصت ملے۔

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ

کیا ہماری مار جلد مانگتے ہیں؟

أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ

بھلا دیکھ تو! اگر برتنے دیا ہم نے ان کو کئی برس۔

.206

ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ

پھر پہنچا ان پر جس کا ان سے وعدہ تھا۔

.207

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَتِعُونَ

کیا کام آئے گا ان کے جتنا برتتے رہے۔

.208

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا هَا مُنذِرُونَ

اور کوئی بستی نہیں کھپائی (ہلاک کی) ہم نے، جس کو نہ تھے ڈر سنانے والے۔

.209

ذِكْرِي وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ

یاد دلانے کو اور ہمارا کام نہیں ہے ظلم کرنا۔

.210

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانِ

اور اس کو نہیں لے اترے شیطان۔

.211

وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ

اور ان سے بن نہ آئے، اور وہ کرنے سکیں۔

.212

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ مَعَزُونَ

ان کو تو سننے کی جگہ سے کنارہ کر دیا ہے۔

.213

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

سو تو مت پکار اللہ کے ساتھ دوسرا احکم، پھر تو تم پڑے عذاب میں۔

.214

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

اور ڈر سنادے اپنے نزدیک ناتے والوں کو۔

.215

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

اور اپنے بازو نیچے رکھ، اُن کے واسطے جو تیرے ساتھ ہوں ایمان والے۔

.216

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِيءٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

پھر اگر تیری بے حکمی کریں، تو کہہ دے میں الگ ہو تمہارے کام سے۔

.217

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر۔

.218

الَّذِي يَرِنَاكَ حِينَ تَقُومُ

جو دیکھتا ہے تجھ کو، جب تو اٹھتا ہے۔

.219

وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجْدِ

اور تیرا پھر نمازیوں میں۔

.220

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

وہ جو ہے وہی ہے سنا جانتا۔

.221

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطَانُ

میں بتاؤں تم کو کس پر اترتے ہیں شیطان۔

تَنْزِلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٍ

اُترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر۔

.222

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْتَرُهُمْ كَذِبُونَ

لاڈالتے ہیں سُنی بات اور بہت ان میں جھوٹے ہیں۔

.223

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

اور شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں۔

.224

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ

تُو نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر میدان میں سرمارتے پھرتے ہیں۔

.225

وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

اور یہ کہ وہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔

.226

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا

مگر جو یقین لائے، اور کیں نیکیاں، اور یاد کی اللہ کی بہت، اور بدلہ لیا اس پیچھے کہ اُن پر ظلم ہوا۔

.227

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

اور اب معلوم کریں گے ظلم کرنے والے، کس کروٹ الٹتے ہیں۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u_com@yahoo.com